

16 فروری 2018

## ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ سپرکلسٹر کے اعلان کے ساتھ برامپٹن کے لیے نئے مواقع کھل گئے

برامپٹن، آن – قابل احترام جناب نودیپ بینز، کینیڈا کے وزیر برائے انوویشن، سائنس اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، نے گذشتہ روز اعلان کیا ہے کہ کینیڈا کے لیے ایک ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ سپر کلسٹر بنانے کی حکومتی حکمت عملی کے مطابق کینیڈا کی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ انوویشن سپرکلسٹرز انیشیٹیو کے تحت کینیڈا وفاقی سرمایہ کاری کے لیے اہل ہو گیا ہے۔

140 سے زائد تنظیموں نے ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ سپرکلسٹر کی بولی میں حصہ لیا۔ سٹی آف برامپٹن نے سپرکلسٹر کے بڑے پراجیکٹ کے حصے کے طور پر فنڈ کے حصول کے لیے قابلیتوں کی ترقی کی ایک تجویز پر برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ کے ساتھ شراکت کی۔ اس تجویز اور مجموعی بولی کی حمایت میں، سٹی اس پورے عمل میں فعال طور پر شامل رہا اور اگلے سالوں کے دوران فنڈنگ کے فیصلوں کے دوران فعال رہے گا۔

حالیہ طور پر شامل کردہ نیگسٹ جنریشن مینوفیکچرنگ کینیڈا (NGM کینیڈا)، کو صنعت کے شعبے اور وفاقی حکومت سے مجوزہ سرمایہ کاریوں کی مد میں \$800M سے زیادہ کے حصول کا سبب بنے گا، جس کے نتیجے میں فرموں، سپلائی چینز، کمیونٹیوں اور صنعت کے کلیدی حصوں میں ملازمت کرنے والے کینیڈا کے ہزاروں شہریوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے فنڈنگ کی تجاویز اور پراجیکٹ لائے جائیں گے۔

جغرافیائی طور پر سپرکلسٹر کا مرکز گریٹر ٹورانٹو ایریا ہو گا اور برامپٹن اس عمل میں معاشی ترقی اور سرمایہ کاری کے مواقع دیکھ رہا ہے۔ سٹی مصنوعات کی جدید طریقے سے تیاری، فعال کاروباری شراکت داروں اور بعد از ثانوی تعلیم کے مشغول شراکت داروں، جیسا کہ شیرینڈن کالج اور ریٹرنسن یونیورسٹی، کے حوالے سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ برامپٹن میں مصنوعات کی تیاری سے 35,000 سے زائد نوکریاں موجود ہیں، جو کہ تقریباً 900 کمپنیوں کی جانب سے فراہم کی جاتی ہیں۔ برامپٹن میں پانچ میں سے ایک شخص مصنوعات کی تیاری کے شعبے میں کام کرتا ہے اور شیرینڈن سینٹر فار ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ اینڈ ڈیزائن ٹیکنالوجیز اور شیرینڈن اسکولڈ ٹریڈر سینٹر جیسے اسٹیک ہولڈر اس شعبے کو تقویت اور ترقی فراہم کرتے ہیں

جدید طریقے سے مصنوعات کی تیاری کا شعبہ کینیڈا کی معاشی ترقی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جنوب مغربی اونٹاریو میں مصنوعات کی تیاری اور ٹیکنالوجی کی فرموں کے لیے شاندار مواقع موجود ہیں۔

ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ سپرکلسٹر حکمت عملی کے تین ستون ہیں:

- ویژن سسٹمز، AI، IoT، ڈیٹا اسکورٹی، ربوٹکس، ایڈوانسڈ میٹیریئلز اور ایڈیٹیو مینوفیکچرنگ جیسی چیزوں میں شراکتی، صنعت کے زیر انتظام چلنے والے پراجیکٹس میں مشترکہ سرمایہ کاری
- نئے ٹولز، ٹیسٹ بیڈز اور انفراسٹرکچر کی تیاری کی حمایت کرنا تاکہ اگلے مرحلے کی مینوفیکچرنگ فرمیں تیار کی جا سکیں
- معاونتوں اور خدمات کا ایک مضبوط ایکو سسٹم تیار کرنا جو مصنوعات کی تیاری میں ٹیکنالوجی کو اختیار کرنے کے عمل کو تیز کر دے، جیسا کہ ٹیکنالوجی کے تیار ہونے کا جائزہ، تربیت اور مہارتوں کی ترقی اور جدت پسند (go-to-market) اسپورٹ

اقتباسات:

"میں ٹوڈ لپٹس اور برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ سپرکلسٹر میں برامپٹن کی کوششوں کو سب سے اوپر رکھا۔ ہمارے شہر کی مصنوعات کی تیاری اور جدت کی مضبوط بنیاد کو مزید بہتر بنانے کے ان کے نظریے کو ہم سب شیئر کرتے ہیں اور ہم اس بولی کو جیتنے میں مدد دینے کے لیے ان کے قوی استدلال کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ہمارے شہر، مقامی کاروباری اداروں اور بعد از ثانوی تعلیم کے اداروں کے لیے ایک نئے ٹیکنالوجی، تحقیق و ترقی اور نئے کارکنان کی تربیت میں سرمایہ کاری کرنے کا ایک منفرد موقع ہے۔"

- میئر لنڈا جیفری

"یہ اعلان برامپٹن کی توانائیوں میں براہ راست اضافہ کا سبب بنے گا۔ برامپٹن میں مصنوعات کی جدید طریقے سے تیاری کے شعبے کی گنجائش اور ہمارے بعد از ثانوی تعلیم کے شراکت داروں کی قابلیتیں ملازمتوں اور سرمایہ کاری کے لیے ممکنات میں اضافہ کرتی ہیں، جو یہ نئی فنڈنگ لا رہی ہے۔"

- سٹی کونسلر جیف بومین، چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

"مصنوعات کی جدید طریقے سے تیاری ہماری معاشی ترقی کی کوششوں میں بڑھوتری کا ایک کلیدی شعبہ ہے۔ اس علاقے اور ممکنہ طور پر برامپٹن کے لیے ہماری مخصوص تجویز کے لیے نئی فنڈنگ صرف ایک ایسے شعبے میں ہی مواقع اور سرمایہ کاری کو بڑھانے میں مدد دے سکتی ہے، جو ہمارے رہائشیوں کو اتنی ساری اعلیٰ تنخواہوں اور مہارتوں والی ملازمتوں کے مواقع فراہم کر سکتی ہے۔"

- باب ڈارلنگ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرین سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

[natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca) | 905.874.3654